



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الحمد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ کی پاکی (تسیح) بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اُسی کو راج ہے آسمانوں کا اور زمین کا،

يُحْيِي وَيُمْهِي

جلاتا (زندہ کرتا) ہے اور مارتا ہے،

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور وہ سب چیز کر سکتا ہے۔

.1

.2

.3

^{صل}
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِيرُ وَالبَاطِنُ

وہ ہے پہلا (اول) اور پھرلا (آخر)، اور باہر (ظاہر) اور اندر (باطن)،

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور وہ سب چیز جانتا ہے۔

.4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین پھر دن میں،

ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

پھر بیٹھا تخت (عرش) پر،

^{صل}
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

جانتا ہے جو پیٹھتا (داخل ہوتا) ہے زمین میں، اور جو اس سے نکلتا ہے،

اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

اور تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور اللہ! جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔

^{صل}
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اسی کو ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔

.5

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔

يُوجِّهُ الْأَيَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِّهُ الْأَنْهَارِ فِي الْأَيَّلِ

داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور اس کو خبر ہے جیوں (دلوں) کی بات کی۔

ص

إِمْوَا أَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

یقین لا و اللہ پر اور اسکے رسول پر اور خرچ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا پناہ نہ کر کر۔

فَالَّذِينَ إِمْتُنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

سو جو لوگ تم میں یقین لائے، اور خرچ کرتے ہیں ان کو نیگ (اجر) بڑا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لا و گے اللہ پر،

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيشَقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اور رسول بلا تا ہے تم کو یقین لا و اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے تمہارا اقرار، اگر ہو تم مانتے۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ

وہی ہے جو انتارتا ہے اپنے بندے پر آئیں صاف کہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجائے میں۔

.6

.7

.8

.9

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ تم پر نرمی رکھتا ہے مہربان۔

.10

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَرْضِ

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہ کرو گے اللہ کی راہ میں،

اور اللہ کو نج رہتا (ہی کی وراثت) ہے ہر کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتُحِ وَقَتَلَ

برا بر نہیں تم میں، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور لڑا۔

أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا أُمِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا

ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، ان سے جو خرچ کریں اس سے پیچھے، اور لڑیں۔

وَكُلَّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

اور سب کو وعدہ دیا ہے اللہ نے خوبی کا۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

.11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضْعِفُهُ اللَّهُ

کون ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو اچھی طرح قرض، پھر وہ اس کو دونا کر دے اسکے واسطے،

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

اور اس کو ملے نیگ (اجر) عزت کا۔

.12

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو،

دوڑتی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں،

^ج بُشَرَ لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيْنَ فِيهَا

خوشخبری ہے تم کو آج کے دن باغ ہیں نیچے بہتیں جن کے نہریں، سدار ہیں ان میں

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

.13

يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفَقِّقُونَ لِلَّذِينَ إِمْنَوْا أَنْظُرُوهُنَّا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ

جس دن کہیں گے دغا باز مرد اور عورتیں، ایمان والوں کو ہماری راہ دیکھو ہم بھی سلاگا لیں تمہاری روشنی سے،

قِيلَ أُنْجِعُوا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَّمِسُوا أُنُورًا

کسی نے کھا لئے جاؤ پیچے، پھر ڈھونڈھ لوروشنی۔

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لِلَّهُ بَابُ

پھر کھڑی کر دی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس کو (میں) ایک دروازہ۔

بَاطِلُهُ فِيهِ الْرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ

اس کے اندر میں مہر (رحمت) ہے اور باہر کی طرف عذاب۔

^ص يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نُكْنِ مَعَكُمْ

یہ ان کو پکارتے ہیں، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ،

.14

قالوا بَلْ

وَهُبُولٌ كَيْوَنَ نَهْ تَتَّهِ ؟

وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرَأَيْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ أَلَامَانِيُّ

لیکن تم نے بچلا (نقش میں ڈال) دیا آپ (خود) کو اور راہ دیکھتے رہے، اور دھوکے میں پڑے اور بہکے خیالوں پر،

حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

جب تک آپنچا حکم اللہ کا، اور تم کو بہکایا اللہ کے نام سے اس دغاباز (شیطان) نے۔

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

سو آج تم سے نہیں قبول چھڑوائی (福德ی) دینی، اور نہ منکروں سے۔

مَأْوَكُمْ أَنَّا نَارٌ

تم سب کا گھر دوزخ ہے۔

هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَإِنَّسَ الْمُصِيدُ

وہی ہے رفیق تمہاری اور بُری جگہ جا پہنچے۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ إِيمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحُكْمِ

کیا وقت نہیں (۲) پہنچا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں انکے دل اللہ کی یاد سے، اور جو اتر اسجادیں،

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَطَ قُلُوبُهُمْ

اور نہ ہوں جیسے جن کو کتاب ملی اس سے پہلے، پھر لمبی گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل۔

.15

.16

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ

اور بہت ان میں بے حکم (نافرمان) ہیں۔

ج ۱۷
أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

جان رکھو کو! کہ اللہ جلاتا (زندہ کرتا) ہے زمین کو اس کے مرے پیچے۔

قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ہم نے کھول سنا ہے تم کو پتے (نشانیاں)، اگر تم کو بوجھ (سبجھ) ہے۔

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قُرْضاً حَسَنًا

تحقیق (یقیناً) جو لوگ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح قرض،

يُضَعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ان کو ملنی ہے دونی (دو گنی)، اور ان کو نیگ (اجر) ہے عزت کا۔

ص ۱۹
وَالَّذِينَ إِيمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْصَّادِقُونَ

اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور سب اس کے رسولوں پر، وہی ہیں سچے ایمان والے

ص ۲۰
وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

اور احوال بتانے والے اپنے رب کے پاس۔ ان کو ہے ان کا نیگ (اجر) اور ان کی روشنی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا إِيمَانَنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اور جو مکنر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں وہ ہیں دوزخ کے لوگ۔

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ

جان رکھو! کہ دنیا کا یہی ہے کھیل اور تماشا، اور بناؤ اور برائیاں کرنی آپس میں،

وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

اور بہتات ڈھونڈنی مال کی اور اولاد کی۔

كَمَثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاثُهُ

جیسے کہاوت ایک مینہ کی جو خوش (اچھا) گاسانوں کو ان کا سبزہ گتا،

ثُمَّ يَرِيْجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا

پھر زور پر آتا ہے، پھر تو دیکھے زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا ہے روند (بھس)۔

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

اور پچھلے گھر (آخرت) میں (کافروں کو) سخت مار ہے اور (مومنوں کیلئے) معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعٌ الْغَرُورِ

اور دنیا کا جینا تو یہی ہے جنس دغا کی۔

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

دوڑواپنے رب کی معافی کو اور بہشت کو جس کا پھیلاو ہے جیسے پھیلاو آسمان اور زمین کا،

أُعْدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

رکھی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

یہ بڑائی (فضل) اللہ کی ہے، دے جس کو چاہے،

وَاللَّهُدُوْلْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأُوهَا

کوئی آفت نہیں پڑی ملک میں اور نہ آپ تم میں جو نہیں لکھی ایک کتاب میں،

پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اسکو دنیا میں

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

بیشک یہ اللہ پر آسان ہے۔

لَكِيلاتٌ سُوءٌ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَنَاكُمْ

تا (ک) تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ ریجھا (ازایا) کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ فُخْتَالٍ فَخُوِّرٍ

اور اللہ نہیں چاہتا ہے کسی اتراتے بڑائی مارتے کو۔

الَّذِينَ يَجْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ

وہ جو آپ نہ دیں، اور سکھائیں لوگوں کو نہ دینا۔

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

اور جو کوئی منه موڑے تو اللہ آپ ہے بے پرواں خوبیوں سراہا۔

.22

.23

.24

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْهِمْ مِّنْ أُنْوَادِهِمْ فَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَمْبَيْزَانَ لِيَقُولُوا إِنَّ النَّاسَ إِلَّا قُسْطٌ

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر،

وَأَنَزَلْنَا الْحُكْمَ يَدِ فِيهِ بِأَسْسٍ شَدِيدٍ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ

اور ہم نے اتارا الوبہ، اس میں سخت لڑائی (زور) ہے، اور لوگوں کے کام چلتے (فائدے) ہیں،

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ كُوْنُ مُرْسَلُهُ بِالْغَيْبِ

اور تا (کہ) معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے!

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الْنُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور ہم نے بھیجے نوح اور ابراہیم، اور کھی دنوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب،

فَمِنْهُمْ مُّهَاجِرٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ

پھر کوئی ان میں راہ پر ہے، اور بہت ان میں بے حکم (فاسق) ہیں۔

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آءَ اثْرِهِمْ بِرُسُلِنَا

پھر پیچھے بھیجے ان کی پچھاڑی پر اپنے رسول

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنَيْمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ

اور پیچھے بھیجا عیسیٰ مریم کا بیٹا اور اس کو دی انجیل،

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

اور کھی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہر (رحم دلی)۔

وَرَهْبَانِيَّةً بَعْدَ مُوَهَّاً مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

اور ایک دنیا چھوڑنا (رہبانیت) انہوں نے نیا کالا (ایجاد کیا) ہم نے ان پر نہ لکھا (فرض کیا) تھا

إِلَّا أَبْيَغَ آءَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهَا

مگر چاہنے کو رضامندی اللہ کی (انہوں نے ایسا کر لیا)، پھر نہ بناہا اس کو جیسا چاہیئے بناہنا،

كَاتَبْنَا الَّذِينَ إِمْنَوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ

پھر دیا ہم نے ان کو جوان میں ایماندار تھے، ان کا نیگ (اجر) اور بہت ان میں بے حکم ہیں۔

يَا يَهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا أَتَقُوا اللَّهَ وَإِمْنَوْا بِرَسُولِهِ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاو اس کے رسول پر،

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا اتَّمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

دیوے تم کو دو بوجھے (صے) اپنی مہر (رحمت) سے، اور کھدے تم میں روشنی،

جسکو لئے پھر واور تم کو معاف کرے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔

لَئِلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ

تanh (کہ) جانیں کتاب والے کہ پانہیں سکتے کچھ اللہ کا فضل،

.28

.29

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جس کو چاہے۔

وَاللَّهُدُوْلْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com